



08 صبح  
طلاق کے بعد بیانی ذاتی زندگی کے بارے میں پہلی بار بات کی

# وطن

ایک میل سے آئی پی ایل 2025 میں چمادی سنسنی

The Urdu Daily WATTAN Budgam

RNI No. JKURD/2011/37141

جلد: 15 شمارہ نمبر: 106 صفحات: 08 قیمت: 02 روپے

### مینڈھر پونچھ میں منگل کی صبح دلدو زسرک حادثہ، مسافر بس گہری کھائی میں جاگری 4 افراد کی موت واقعہ، 43 دیگر زخمی وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار



سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

### 1971 کی ہند پاک جنگ کے بعد ملک میں اپنی نوعیت کی پہلی بڑی شہری دفاعی مشق مرکزی داخلہ سیکرٹری نے لیا تیار یوں کا جائزہ

### آج جموں و کشمیر سمیت کئی ریاستوں کے تقریباً 250 اضلاع میں مورک ڈرل کا انعقاد عوامی تربیت، بلیک آؤٹ، اہم ڈھانچوں کی چھپائی اور انخلاء کے منصوبوں کی تازہ کاری شامل



سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

### ایکشن کمیشن کی انتخابی عمل کومز میڈیکم بنانے کیلئے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت شروع

سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

### پہلا گام دہشت گردانہ حملے کے پس منظر میں وزیر اعظم مودی کی جانب سے مینڈھوں کا سلسلہ جاری قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈول اور داخلہ سیکرٹری گووند موہن کے ساتھ مینڈنگ میں حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا

سلسلے کے بعد ہوئے۔ ایک دن پہلے، چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل اے بی سنگھ نے وزیر اعظم مودی سے ملاقات کی اور سمجھا جائے کہ انہوں نے حملے کے بعد کی صورتحال کے بارے میں جان لیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے۔



وزیر اعظم مودی کی جانب سے مینڈھوں کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ انہوں نے اس سلسلے کو شروع کیا ہے۔

سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

### جاوید احمد ڈار کی سول سیکرٹریٹ میں مختلف وفاؤں سے ملاقات

سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

### جموں و کشمیر میں لائن آف کنٹرول کی گن گرج مسلل 12 ویں رات پاکستانی فوج کی بلا اشتعال فائرنگ ہندوستانی فوج کی متناسب اور کنٹرول شدہ انداز میں جوابی کارروائی: حکام



سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

### پتھر نکلنے کے دوران لینڈ سلائیڈنگ دگرگولہ میں ایک مزدور از جان، دوسرا زخمی

سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔



سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

### ہلاک حملے کے ذمہ داروں کو پکڑنے کی کوششوں میں احتیاط برتنے کی ضرورت نئے حفاظتی اقدامات سے معصوم مقامی افراد متاثر نہ ہوں وزیر اعظم سے ملاقات میں ہم نے کیا بات کی تھی، مجھ تک رہنے دیں: وزیر اعلیٰ

سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔



سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

### سری نگر پولیس، ٹورسٹ پولیس، ایس ڈی آرایف نے کیا ہنگامی رد عمل کو بڑھانے کیلئے ڈل چینل میں بڑی موک ڈرل کا انعقاد



سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

### سہ سال رواں میں 03 جولائی سے شروع ہونے والی 38 دنوں پر محیط سالانہ امر ناتھ یاترا

### جموں میں حکام نے شہری سہولیات کو بڑھانے کیلئے ترقیاتی منصوبے کا جائزہ لیا

سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔



سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

### پہلا گام دہشت گردانہ حملے کی جنتی مذمت کی جائے وہ کم، یہ ایک بزدلانہ حملہ تھا اس نے کشمیر کی اہم سیاحتی صنعت کو شدید دھچکا پہنچایا قصور واروں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہئے/ اویسی

سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔

سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔



سری گھر ۶ بجی رات کو مینڈھر پونچھ کے مینڈھر علاقے میں ایک دلدو زسرک حادثہ کے دوران 4 افراد ہلاک اور 43 زخمی ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔





# بچوں میں قدرتی اور تخلیقی صلاحیتوں کو کیسے اجاگر کیا جائے؟

## اطفال کی بہترین پرورش اور کامیابی کے لیے ان سات اہم نکات پر عمل کریں



ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ ہماری ذہنی اور جسمانی زندگی بچوں کے بغیر کیسی ہوگی! بالکل حیران اور سبے معنی۔ بچے ہماری دنیا کی خوبصورتی اور رونق ہیں جن کے بغیر خاندان اور دنیا کا مکمل ہونا ناممکن ہے۔

بچے ہماری دنیا کا مستقبل اور سرمایہ ہیں۔ یہ دنیا کی خوش حالی اور ترقی کا وسیلہ ہیں۔ اس لیے ان کی بہترین پرورش اور قدرتی و تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے پورے معاشرے بالخصوص والدین کو بھرپور توجہ دینے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جانتا ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت ایک نازک اور آرتھ ہے۔

والدین بنیادی طور پر آرتھ ہوتے ہیں، اور کسی بھی آرتھ کے لیے اسکو سیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ بچوں کی پرورش اور تربیت کے لیے خود کو تیار کرنا، خود کو بدلنا اور سیکھنے کے لیے تیار ہونا لازمی امر ہے۔ بچے والدین کے لیے تھکے بھی ہیں اور ذمے داری بھی۔ یاد رکھیں، بچوں میں کامیابی کے لیے اپنی شخصیت پر اعتماد اور ناکامی کا خوف والدین کی جانب سے ملتا ہے۔

والدین ہی اپنے بچوں میں یہ اعتماد پیدا کرتے ہیں جو انہیں معاشرے میں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ بچوں کی پرورش کے لیے اپنی اپنی اور بڑے ہونے کی ضد کو ایک سائیز پر رکھیں، انہیں اپنی محبت، شفقت اور وقت سے بہتر انسان بننے میں معاونت کریں۔

اس مضمون میں ہم سات اہم نکات پیش کریں گے جو والدین کے لیے راہنمائی کا ذریعہ ہیں اور وہ ان نکات پر عمل پیرا ہو کر اپنے بچوں کی قدرتی اور تخلیقی صلاحیتوں کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ ایک بچے کو زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے صرف دو باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے لیے آس وقت تالی بناسکیں، جب دنیا سے بالکل نہیں جانتی ہے۔ یہ دو باتیں ماں اور باپ کے ہاتھ ہوتے ہیں۔ یونیسف پاکستان کے مطابق ”بچوں کی پرورش کرنا دنیا کا سب سے اہم کام ہے اور اس میں ماں اور باپ دونوں کو دل چسپی لینی چاہیے۔ اپنے بچوں کے ساتھ وقت ضرور گزاریں۔ آپ کے بچے زندگی میں کامیاب ہوں گے جب آپ بچپن سے کریں گے ان کی پرورش برہم قدم پر۔“

معروف مصنف اور ماہر نفسیات ایڈم گرٹ نے کیا خوب کہا ہے کہ ”بطور والدین آپ کی کامیابی یہ نہیں، کہ آپ کے بچے بہترین یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں یا اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں۔ بحیثیت والدین آپ کا اصل امتحان یہ نہیں کہ آپ کے بچوں نے کیا حاصل کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ کیا بنے ہیں اور دوسروں کے ساتھ کیسے پیش آتے ہیں۔“ نام و ماہر نفسیات اور مصنف ڈاکٹر خالد رحیل کہتے ہیں: ”ہماری نگاہ میں انسانی بچہ ایک کج طرح ہوتا ہے جس میں اس کی عظمت کے سب امکانات موجود ہوتے ہیں۔

وہ ایک تن آرزو درخت بن سکتا ہے اور اپنے معاشرے کو اپنے بیٹھے پھلوں کے تحفے دے سکتا ہے لیکن تن آرزو درخت بننے کے لیے جس طرح کی کج کو تازہ ہوا اور سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسانی بچے کو ماں باپ کی محبت اور اساتذہ کی راہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اسے مل جائیں تو وہ ایک بیاروحیت

5: غلطیوں کو قبول کریں اور سنے تجزیے کو اپنائیں۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں غلطی کو ناکامی سے تشبیہ دی جاتی ہے جب کہ غلطی درحقیقت اس عمل کا نتیجہ ہے جو ہمیں ناکامی سے کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے والدین اپنی زندگی کے ناکام تجربوں کی بنیاد پر بچوں کو غلطیاں کرنے سے محروم رکھتے ہیں اور بچے ان غلطیوں کے خوف سے نئے تجربات اور سیکھنے کے عمل سے قاصر رہتے ہیں۔

والدین کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ بچے اگر غلطیاں نہیں کریں گے تو وہ سیکھنے کے عمل میں سے نہیں گزریں گے۔ سیکھنا غلطیوں کے عمل سے گزر کر آگے بڑھنے کا نام ہے۔ بچوں کی غلطیوں پر انہیں ڈانٹنے اور خوف زدہ کرنے کی بجائے، انہیں متحرک کریں اور انہیں غلطیوں کو مختلف نظر سے دیکھنے، تجربات سے فائدہ حاصل کرنے اور آگے بڑھنے کی توجہ دیں اور اپنے ماضی کے تجربے کو ان کی غلطیوں میں مداحلت ذکر نہ دیں۔

6: بچوں کے لیے سیکھیں بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کے لیے ”بڑے“ نہیں ”بچے“ بننا پڑتا ہے۔ بہت سارے والدین یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمراور تجربے میں بڑے ہونے کی وجہ سے اپنے بچوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں لیکن آج کے دور میں یہ بات کسی حد تک درست نہیں کیوں کہ بچے جس ڈور اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہوتے ہیں۔

بہت سارے والدین اس چیز سے بالکل بھی واقف نہیں ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنی عمر کی بنا پر بڑے بننے کی بجائے بچوں کے لیے بچے بننا سیکھیں، ان کے معیار ان کی سوچ اور ان کی عمر کے مطابق ان سے برتاؤ کریں۔

7: اپنے بچوں کا سواڑ نہ دوسروں سے نہ کریں یہ عمل میرے نزدیک انتہائی نامناسب ہے کہ ہم اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ درحقیقت یہ عمل ہی قدرت کے قانون کی خلاف ورزی ہے کیوں کہ قدرت نے ہر انسان، ہر بچے کو ایک منفرد اور مختلف شخصیت دے کر پیدا کیا ہے اس لیے کسی بھی بچے کو سونپنے، سمجھنے اور چیزوں کو گولی طور پر کرنے کا انداز کا کسی دوسرے بچے سے موازنہ کرنا درست نہیں ہے۔ آج کے دور میں بچے مختلف طرح سے سیکھتے، سمجھتے اور چیزوں کو کرتے ہیں۔ اس ضمن میں Multiple

Intelligences کی تھیوری ایک بہترین مثال ہے۔ طویل جبران نے اپنی کتاب پرافٹ میں لکھا ہے، ”ایک عورت نے، جس نے اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا، پوچھا: ہمیں بچوں کے بارے میں بتاؤ؟ اس نے کہا: تمہارے بچے تمہارے نہیں ہیں یہ زندگی کی امانت ہیں انہیں اپنی محبت دو اپنے خیالات نہ دو کیوں کہ ان کے اپنے خیالات ہیں۔ تم ان کے جسموں کا خیال رکھ سکتے ہو روجوں کا نہیں۔ ان کی روحیں فروا کے لیے ہیں جہاں تمہاری رسائی نہیں، خوابوں میں بھی نہیں۔“ اگر والدین چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کامیابی، عزت اور شہرت حاصل کریں، تو اپنے بچوں میں اپنی زندگی کے منفی تجربات، نفرت آمیز رویے اور حسد کے جذبات منتقل نہ کریں کیوں کہ والدین بچوں کو تائید کرتے ہیں اور بچے والدین کی تقلید کرتے ہیں۔

3: بچوں کی راہنمائی کرنے کے لیے نئے طریقے سیکھیں

اکثر والدین اسی طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کرتا چاہتے ہیں جس طرح سے ان کے والدین نے ان کی پرورش کی تھی۔ یہ ایک مشکل امر ہے کیوں کہ 2024 کا بچہ ہمارے دور کے بچپن سے بہت مختلف ہے۔

اس لیے والدین کو بچوں کی تعلیم و تربیت ان کی سوچ، شخصیت اور سیکھنے کے طریقے کار کو سمجھنے کے لیے خود سیکھنے کے نئے طریقے سیکھنے ہوں گے اور ان رویوں، باتوں اور سوچوں کا از سر نو جائزہ لینا ہوگا جو انہوں نے اپنے بچپن میں سیکھی تھیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو آج کے جدید دور کے مطابق ہم آہنگ کروا سکیں۔ آپ کو بچوں کی تربیت کرنے کے نئے طریقے سیکھنے کی ضرورت ہے۔

4: بچوں کے تجسس کی قدر کریں انہیں وہ کرنے کی آزادی دیں جو وہ چاہتے ہیں اور کیسے کرنا چاہتے ہیں۔ بچوں کے تجسس کی قدر کرنا درحقیقت ان کی قدرتی صلاحیتوں کا اعتراف کرنے کے مترادف ہے۔ بہت سارے والدین بچوں کو کھانے اور ان کی تربیت کرنے کے دوران ان کے تجسس کی حس کو دبا دیتے ہیں۔

تجسس قدرت کا سب سے اہم اور بہترین تحفہ ہے اور بچے اس تحفے سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے تجسس، ان کے سیکھنے کے انداز اور ان کی قدرتی صلاحیتوں کو سمجھنے کے لیے ان کا ساتھ دیں۔



پرکھنے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ جو کچھ دیکھتے ہیں اسی کو اپنا لیتے ہیں اور عملی طور پر کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ والدین ہیں، یا اساتذہ یا بچوں کی تربیت کرتے ہیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ بچوں کو بتانے کی بجائے انہیں وہ کر کے دکھائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کریں۔

2: جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا ماحول بنائیں آپ جو کہتے ہیں ویسا ماحول فراہم کریں اور بچوں کی معاونت کریں۔ ایک اہم کلمہ جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر انسان کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اچھائیوں ذہنیات میں ظاہر کر کے لیکن انسان کا ماحول اس کی پرورش اور سپورٹ سسٹم اسے اس قابل بناتا ہے کہ وہ ویسا انسان بن سکے جیسا قدرت نے اسے تخلیق کیا ہے۔

اس لیے اکثر والدین بچوں کو ویسا بنانا چاہتے ہیں جیسے ان کی خواہش ہوتی ہے اور یہ خواہش بڑی نہیں ہے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو ویسا ماحول اور سپورٹ سسٹم مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔

اس کی عامی مثال یہ ہے کہ والدین آج کل بہت شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بچے فون بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کتابیں نہیں پڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے گھر میں فون اور ٹی وی کے استعمال کا باقاعدہ کوئی طریقہ کار نہیں اور کتابیں ہی مہیا نہیں اور پڑھنے کا کلچر نہیں ہے تو بچے وہ نہیں کریں گے جو آپ صرف کہتے ہیں۔

1: تائید نہیں کر کے دکھائیں والدین کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ بچے والدین کے ”بتانے“ ہونے پر نہیں بلکہ، ”اپنانے“ ہونے اصولوں پر چلتے ہیں۔ پچھلے وہ کریں جو آپ چاہتے ہیں کہ بچے کریں۔ میں جب بھی والدین، اپنے رشتہ داروں اور فرینڈنگ سسٹم میں مختلف لوگوں سے ملتا ہوں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ کریں لیکن آج کل کے بچے سنتے ہی نہیں دیتا۔

میں ان کے سوال کو غور سے سنتا ہوں اور انہیں اکثر یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ ہمیں بچوں کو بتانے سے زیادہ انہیں کر کے دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ انسانی فطرت اور تجسس ہے کہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے وہی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالخصوص بچے کیوں کہ ان کے اندر چیزوں کو









## Protect your Health from Everything that comes its way



Bajaj Allianz Extra Care Plus policy along with the added benefits of Health Prime Rider ensures that you don't have to settle for less when it comes to you and your family's growing healthcare needs.

### Bajaj Allianz Extra Care Plus's Features:



Long Term Discount



Option to Opt for  
Air Ambulance



Free health check-up

### Benefits of Health Prime Rider:



Rider for both Individual & Family  
Floater Basis\*\*



24\*7 Unlimited  
Tele-Consultation



Investigations Cover

\*\*Based on the variant opted in health plan

To know more, contact your **J&K Bank's Relationship Manager**

Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd., Bajaj Allianz House, Airport Road, Yerawade, Pune - 411006, IRDAI Reg No.: 113, | CIN: U66010PN2000PLC015329 | UIN: BAHLP23069V032223 - Extra Care Plus, BAHLIA24087V022324 - Health Prime Rider | web: www.bajajallianz.com | Toll free: 1800-209-5858 / 1800-209-0144

J&K Bank Ltd is a licensed Corporate Agent [bearing License No.: CA0029] of Bajaj Allianz General Insurance Company Ltd. [IRDAI registration No. 113]. The benefits/features of products are indicative and for more details on risk factors and Terms and Conditions, please read the sales brochure before concluding a sale. | BIAZ-P-IC-0013/03-11-2023